

Habib Bank Limited,

Branch.

Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

IMPORTANT: Read this document carefully if you are considering opening a new account. It is available in English and Urdu. You may also use this document to compare different accounts offered by other banks. You have the right to receive KFS from other banks for comparison.

Account Types & Salient Features

Current Accounts for different customer segments. This information is as per the prevailing Schedule of Bank Charges (SoBC) as of 01 July 2025. Services, fees and mark-up rates may change on a half-yearly (31-12-2025) basis. For updated fees/charges, you may visit our website www.hbl.com or visit our branches.

Particular		Conventional - Current Accounts				
		HBL Roshan Digital Rupee Value Account (NRVA) for NRPs	HBL Roshan Digital Foreign Currency Value Account (FCVA) for NRPs	HBL Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA) for Resident Pakistanis	HBL Roshan Digital Asaan Account	HBL Roshan Digital Asaan Account
Currency PKR, USD, GBP, EURO, SAR, AED,CAD, CNY		PKR	FCY	FCY	PKR	FCY
Minimum Balance for Account (If any, provide the amount)	To open	0				
	To keep	0				
Account Maintenance Fee (If any, provide the amount)		0				
Is profit paid on account (Yes/No) (Subject to the applicable tax rate)		No				
Indicative Profit Rate (%)		Not Applicable				
Profit Payment Frequency (Daily, Monthly, Quarterly, Half-yearly and Yearly)		Not Applicable				
Provide example (On each PKR 1000, you can earn PKR ----- on given periodicity)		Not Applicable				
Premature/Early Encashment/Withdrawal Fee (If any, provide amount/rate)		Not Applicable				

Service Charges
IMPORTANT: This is a list of the main service charges for this account. It does not include all charges. You can find a full list of all bank charges (SoBC), visit our website www.hbl.com or call 111-111-425 HBL 24 hours Phone Banking. Please note that all bank charges are exclusive of applicable taxes advised in BC&CPD circular no, 2 of 2020.

Services	Modes	Conventional - Current Accounts				
		HBL Roshan Digital Rupee Value Account (NRVA) for NRPs	HBL Roshan Digital Foreign Currency Value Account (FCVA) for NRPs	HBL Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA) for Resident Pakistanis	HBL Roshan Digital Asaan Account	HBL Roshan Digital Asaan Account
Cash Transaction	Within City	Free				

Services	Modes	Conventional - Current Accounts				
		HBL Roshan Digital Rupee Value Account (NRVA) for NRPs	HBL Roshan Digital Foreign Currency Value Account (FCVA) for NRPs	HBL Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA) for Resident Pakistanis	HBL Roshan Digital Asaan Account	HBL Roshan Digital Asaan Account
Cash Transaction	Inter city	Free				
	Own ATM Withdrawal	0				
	Other Bank ATM	PKR 35				
SMS Alerts	ADC/Digital	0				
	Clearing	0				
	For other transactions			PKR 280		
		HBL Roshan Rupee Value Account (NRVA) for NRPs	HBL Roshan Digital Foreign Currency Value Account (FCVA) for NRPs	HBL Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA) for Resident Pakistanis	HBL Roshan Digital Asaan Account	HBL Roshan Digital Asaan Account
Debit Cards	PayPak Chip	Not Applicable				
	Visa Chip	Not Applicable				
	MasterCard Standard	PKR 3,000	Not Applicable		PKR 3,000	Not Applicable
	MasterCard Gold	Not Applicable				
	UnionPay Chip	Not Applicable				
	Visa Chip USD	Not Applicable	USD 15		Not Applicable	USD 15
	MasterCard World	Not Applicable				
Cheque Book	Issuance	PKR 30 per leaf				
	Stop payment	PKR 900	USD 15		PKR 900	USD 15
	Loose cheque	0				

- Issuance charges of MasterCard Standard for HBL Roshan Digital Rupee Value Account is waived for the first year. Second year onwards, annual fees shall apply
- Issuance charges of Visa USD for HBL Roshan Digital USD Account is waived for the first year. Second year onwards, annual fees shall apply
- First cheque book of 25 leaves is issued free of cost to HBL Roshan Digital Account holders for Non Resident Pakistani (NRPs)
- for Resident Pakistani charges will apply as per SOBC
- The first issuance is free, subsequent charges will be applicable as per SOBC.
- Debit cards shall be issued as per the respective product offering
- No local Credits are allowed in all types of HBL RDA account

Services	Modes	Conventional - Current Accounts				
		HBL Roshan Digital Rupee Value Account (NRVA)) for NRPs	HBL Roshan Digital Foreign Currency Value Account (FCVA) for NRPs	HBL Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA) for Resident Pakistanis	HBL Roshan Digital Asaan Account	HBL Roshan Digital Asaan Account
Remittance (Local)	Banker Cheque/ Pay Order	PKR 750/-				
Remittance Foreign	Foreign Demand Draft	0				
	Wire Transfer	0				

Services	Modes	Conventional - Current Accounts				
		HBL Roshan Digital Rupee Value Account (NRVA) for NRPs	HBL Roshan Digital Foreign Currency Value Account (FCVA) for NRPs	HBL Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA) for Resident Pakistanis	HBL Roshan Digital Asaan Account	HBL Roshan Digital Asaan Account
Statement of Account	Annual	0				
	Half-yearly	0				
	Duplicate	0				
Fund Transfer	ADC/Digital Channels	Upto PKR 25,000 - Free Above PKR 25,000 - 0.1% or PKR 200 whichever is lower*				
	Others	0				
Digital Banking	Internet Banking Subscription (one-Time & Annual)	0				
	Mobile Banking Subscription (one-Time & Annual)	0				
Clearing	Normal					
	Inter-city	0				
	Same Day	0				
Closure of Account	Customer Request	0				
Remittance received charges under 'Free Send Model' through International Money Transfer Operators/ Exchange Companies		SAR 20/- (equivalent amount in Plus 15% FED)				

You Must Know

Requirements to open an account: To open the account you will need to satisfy some identification requirements as per regulatory instructions and banks' internal policies. These may include providing documents and information to verify your identity. Such information may be required on a periodic basis. Please ask us for more details by visiting any of our branch for more details, call 111-111-425 HBL 24 hours Phone Banking or visit www.hbl.com for more information. Cheque Bounce: Dishonouring of cheques is a criminal offence under Section 489-F of the Pakistan Penal Code of 1860 and Section 20 of the Financial Institutions (Recoveries of Finance) Ordinance of 2001; and is subject to a criminal trial in Pakistan. Accordingly, you should be writing cheques with utmost prudence. Safe Custody: Safe custody of access tools to your account like ATM cards, PINs, cheques, e-banking usernames, passwords; other personal information, (such as DOB, Mother's Maiden Name etc.) is your responsibility. Bank cannot be held responsible in case of a security lapse at the customer's end. HBL never calls you to ask for your personal information from any number including 111-111-425. HBL will never call and ask for your sensitive information (password, debit card #, PIN, CNIC, OTP, CVV) via call, SMS or email. Kindly do not disclose details to anyone. Be extra vigilant and do not provide any sensitive information (PIN/password/CNIC/ATM/credit card #) over the internet, telephone, SMS email, or social media. Record Updation: Always keep profiles/records updated with the bank to avoid missing any significant communication. For further guidance individual customers can contact through an email at roshandigital.dce@hbl.com to update your information, call 111-111-425 HBL 24 hours Phone Banking or visit www.hbl.com for more details. What happens if you do not use this account for a long period? If your account remains inoperative for 12 months, it will be treated as inactive/dormant. If your account becomes dormant, you will be unable to execute any debit transaction till the account is activated. You (individual customers) can contact your relevant nearest HBL branch for company accounts please contact parent branch to update records and reactivate your account. Overseas customers to email at bio.verify@hbl.com to get guidance for reactivation of their account(s).	Unclaimed Deposits: In terms of Section 31 of Banking Companies Ordinance, 1962 all deposits which have not been operated during the period of last fifteen years, except deposits in the name of a minor or a Government or a court of law, are surrendered to State Bank of Pakistan (SBP) by the relevant banks, after meeting the conditions as per provisions of law. The surrendered deposits can be claimed through the respective banks. For further information, please contact, the Branch Manager/Branch Operations Manager of your parent HBL branch. All charges exclusive of taxes as advised in BC&CPD circular no, 2 of 2020. Closing this Account: In order to close your account, please follow Bank laid down internal procedures. For further guidance, individual customers can contact nearest branch manager/Branch operation manager and for company account please contact your parent branch. How can you get assistance or make a complaint? Habib Bank Limited, Complaint Management Unit 9th Floor, HBL Plaza, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan Helpline: 021-111-111-425 For Inquiries: customer.care@hbl.com For Complaints: customer.complaints@hbl.com Website: www.hbl.com If you are not satisfied with our response, you may contact: If the Bank resolution is not satisfactory or there is no response provided within 45 days, then a complaint may be filed with the Banking Mohtasib Pakistan. https://www.bankingmohtasib.gov.pk/complaints.php or drop a written complaint at: Banking Mohtasib, Pakistan 5th Floor, Shaheen Complex, M.R. Kiyani Road, Karachi. Tel. No.: 92-21-99217334-38 Email: Info@bankingmohtasib.gov.pk Website: www.bankingmohtasib.gov.pk
--	--

(Portion to be used for the post-shopping stage)

I ACKNOWLEDGE RECEIVING AND UNDERSTAND THIS KEY FACT STATEMENT

Customer Name

Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Product Chosen

Mandate of Account

Single/Joint/Either or Survivor

Address

Contact No.

Mobile No.

Email Address

Customer Signature

Signature Verified

تاریخ
D D | M M | Y Y
دن مہینہ سال

حبیب بینک لمیٹڈ،

برانچ۔

اہم: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ دوسرے بینکوں کی جانب سے مختلف اکاؤنٹس کے لیے پیش کی جانے والی آفر کا موازنہ کرنے کے لیے بھی آپ اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کرنے کے لیے دوسرے بینکوں سے KFS وصول کرنے کا حق حاصل ہے۔

اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات:

مختلف کسٹمر سگمنٹس کے لیے کرنٹ اکاؤنٹس۔ یہ معلومات 01 جولائی 2025 سے موجودہ شیڈول آف بینک چارجز (SOBC) کے مطابق ہیں۔ خدمات، فیس اور مارک۔ اپ ریٹس ششماہی (2025-12-31) بنیادوں پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔
اپ ڈیٹیفیس / چارجز کے لیے، آپ ہماری ویب سائٹ www.hbl.com یا ہماری برانچر کا وزٹ کر سکتے ہیں۔

کنوینشنل کرنٹ - اکاؤنٹس					تفصیلات	
HBL روشن ڈیجیٹل آسان اکاؤنٹ	HBL روشن ڈیجیٹل آسان اکاؤنٹ	HBL غیر ملکی کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) برہائشی پاکستانیوں کے لیے	غیر رہائشی پاکستانی (NRPs) کے لیے HBL روشن ڈیجیٹل ویلیو اکاؤنٹ (FCVA)	غیر رہائشی پاکستانی (NRPs) کے لیے HBL روشن ڈیجیٹل روپی ویلیو اکاؤنٹ (NRVA)		
غیر ملکی کرنسی	روپے	غیر ملکی کرنسی	(روپیہ، امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، یورو، کینیڈین ڈالر، چائیز یوان، درہم، چوڈی ریال)	روپے	روپیہ، امریکی ڈالر، غیر ملکی کرنسی، برطانوی پاؤنڈ، یورو، سعودی ریال، درہم، کینیڈین، ڈالر، چائیز یوان	
0		امریکی ڈالر 100، برطانوی پاؤنڈ 100، یورو 100	0	کھولنے کے لیے		اکاؤنٹ کے لیے کم سے کم بیلنس (اگر کوئی ہے تو، اس حوالے سے بتائیں)
		0	رکھنے کے لیے			
		0	اکاؤنٹ میینٹیننس فیس (اگر کوئی ہے تو، اس حوالے سے بتائیں)			
		نہیں	کیا منافع اکاؤنٹ پر ادا کیا جاتا ہے (ہاں / نہیں) (قابل اطلاق ٹیکس کی شرح سے مشروط ہے)			
		نا قابل اطلاق	انڈیکسڈ پرافٹ ریٹ (%)			
		نا قابل اطلاق	پرافٹ ہیمنٹ فریکوئنسی (روزانہ، ماہانہ، سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ)			
		نا قابل اطلاق	فراہم کردہ مثال: (ہر 1,000 روپے پر، آپ مقررہ معیاد میں ----- روپے کماسکتے ہیں)			
		نا قابل اطلاق	پری میچور / اربل انکلیشنٹ / ودھ ڈرال فیس (اگر کوئی ہے تو، رقم / شرح مہیا کریں)			

سروس چارجز

اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لیے مرکزی سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.hbl.com سے یا 24 آورزون بینکنگ 111-111-425 پر کال کر کے تمام بینک چارجز (SOBC) کی مکمل فہرست حاصل کر سکتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ تمام بینک چارجز 2020 کے BC&CPD سرکڑ نمبر 2 میں بتائے گئے قابل اطلاق ٹیکسوں کے علاوہ ہیں۔

کنوینشنل کرنٹ - اکاؤنٹس					موڈز	سروسز
HBL روشن ڈیجیٹل آسان اکاؤنٹ (فارن کرنسی میں)	HBL روشن ڈیجیٹل آسان اکاؤنٹ (مقامی کرنسی میں)	HBL غیر ملکی کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) برائے پاکستانیوں کے لیے	غیر رہائشی پاکستانی (NRPs) کے لیے HBL روشن ڈیجیٹل فارن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ (FCVA)	غیر رہائشی پاکستانی (NRPs) کے لیے HBL روشن ڈیجیٹل روپی ویلیو اکاؤنٹ (NRVA)		
مفت					اندرون شہر	کیش ٹرانزیکشن

کوئٹل کرنٹ - اکاؤنٹس					موڈز	سروسز
HBL روشن ڈیجیٹل آسان اکاؤنٹ (فارن کرنسی میں)	HBL روشن ڈیجیٹل آسان اکاؤنٹ (مقامی کرنسی میں)	HBL غیر ملکی کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) رہائشی پاکستانیوں کے لیے	غیر رہائشی پاکستانی (NRPs) کے لیے HBL روشن ڈیجیٹل فارن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ (FCVA)	غیر رہائشی پاکستانی (NRPs) کے لیے HBL روشن ڈیجیٹل روپی ویلیو اکاؤنٹ (NRVA)		
مفت					انٹرا-سٹی	کیش ٹرانزیکشن
0					اپنے ATM سے ڈھڈھال	
35 روپے					دوسرے بینک کے ATM سے	
0					ADC / ڈیجیٹل	ایم ایس ایس الرٹس
0					کلیرنگ	
			280 روپے	دیگر ٹرانزیکشنز کے لیے		
HBL روشن ڈیجیٹل آسان اکاؤنٹ	HBL روشن ڈیجیٹل آسان اکاؤنٹ	HBL غیر ملکی کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) رہائشی پاکستانیوں کے لیے	غیر رہائشی پاکستانی (NRPs) کے لیے HBL روشن ڈیجیٹل فارن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ (FCVA)	غیر رہائشی پاکستانی (NRPs) کے لیے HBL روشن ڈیجیٹل روپی ویلیو اکاؤنٹ (NRVA)		ڈیجیٹل کارڈز
نا قابل اطلاق					پے پاک چپ	
نا قابل اطلاق					ویزا چپ	
نا قابل اطلاق	3,000 روپے	نا قابل اطلاق	3,000 روپے		ماسٹر کارڈ اسٹینڈرڈ	
نا قابل اطلاق					ماسٹر کارڈ گولڈ	
نا قابل اطلاق					یونین پی پی چپ	
15 امریکی ڈالر	نا قابل اطلاق	15 امریکی ڈالر	نا قابل اطلاق		ویزا چپ امریکی ڈالر	
نا قابل اطلاق					ماسٹر کارڈ ورلڈ	
30/- روپے فی صفحہ					اجرا	چیک بک
15 امریکی ڈالر	900 روپے	15 امریکی ڈالر	900 روپے		اسٹاپ پیمنٹ	
0					لوڈ چیک	

- HBL روشن ڈیجیٹل روپی ویلیو اکاؤنٹ کے ماسٹر کارڈ اسٹینڈرڈ کے اجراء کے چارجز پہلے سال کے لیے مکمل مفت ہیں، دوسرے سال کے بعد سالانہ فیس لاگو ہوگی۔
- HBL روشن ڈیجیٹل یو ایس ڈی اکاؤنٹ کے لیے ویزا یو ایس ڈی کے اجراء کے چارجز پہلے کے لیے مفت ہیں، دوسرے سال کے بعد سالانہ فیس لاگو ہوگی۔
- HBL روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز کو 25 بنوں کی پہلی چیک بک مفت جاری کی جاتی ہے۔
- 10 بنوں کی پہلی چیک بک HBL لوکل اکاؤنٹ ہولڈرز کے ذریعے ای بینک کو مفت جاری کی جاتی ہے۔
- پہلی بار مفت اجراء، بعد میں چارجز SOBC کے مطابق لاگو ہوں گے۔
- ڈیجیٹل کارڈ متعلقہ مصنوعات کی پیشکش کے مطابق جاری کیے جائیں گے۔
- HBL آر ڈی اے اکاؤنٹ کی تمام اقسام میں مقامی کریڈٹ کی اجازت نہیں ہے۔

کوئٹل کرنٹ - اکاؤنٹس					موز	سرومز
HBL روشن ڈیجیٹل آسان اکاؤنٹ (فارن کرنسی میں)	HBL روشن ڈیجیٹل آسان اکاؤنٹ (مقامی کرنسی میں)	HBL غیر ملکی کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) رہائشی پاکستانیوں کے لیے	غیر رہائشی پاکستانی (NRPs) کے لیے HBL روشن ڈیجیٹل فارن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ (FCVA)	غیر رہائشی پاکستانی (NRPs) کے لیے HBL روشن ڈیجیٹل (NRVA)		
750 روپے					ٹیکر چیک / پے آرڈر	ریمیتنس (مقامی)
0					فارن ڈیماٹڈ ڈرافٹ	ریمیتنس (غیر ملکی)
0					وائٹ ٹرانسفر	

